

## برامپٹن ٹرانزٹ میں قابل ذکر اور شاندار نوعیت کی جدید ترین تبدیلیاں لانے کے لیے برامپٹن نے صوبے اور وفاق سے \$7.3 ملین کے فنڈز حاصل کر لیے ہیں

برامپٹن، آن (17 مئی 2021) – آج، میئر پیٹرک براؤن؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ مینندر سیدھو، پارلیمنٹری سیکریٹری برائے منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ممبر پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ، محترمہ کیتھرین میک کینا، وفاقی وزیر برائے انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے؛ اور جناب پرامیٹ سنگھ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے سماں بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور برامپٹن ساؤتھ کے صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر اور برامپٹن ساؤتھ؛ اونٹاریو کے منسٹر فار انفراسٹرکچر جناب لاؤری اسکاٹ؛ نے برامپٹن ٹرانزٹ کے فلیٹ میں موجود بسوں کے بہترین انتظام و انصرام کے لیے کمپیوٹر ایڈڈ ڈسپچ اور آٹومیٹک وہیکل لوکیشن سسٹمز کی تبدیلی کے لیے مشترکہ مالی معاونت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔

کینیڈا کی حکومت کینیڈا میں سرمایہ کاری کے منصوبے پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر سٹریٹ (PTIS) کے ذریعے اس منصوبے پر \$4 ملین کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے لیے حکومت اونٹاریو \$3.3 ملین مہیا کر رہی ہے جبکہ سٹی آف برامپٹن \$2.6 ملین فراہم کر رہا ہے۔

اس پروجیکٹ میں کمپیوٹر ایڈڈ ڈسپچ اور آٹومیٹک وہیکل لوکیشن سسٹمز کے لیے درکار ڈیزائنز، بناوٹ اور تمام معاون ڈیوائسز، آپریٹنگ سسٹمز، نیٹ ورک گیٹرز اور سافٹ ویئرز کی انسٹالیشن شامل ہے۔ یہ تبدیل شدہ جدید ترین سسٹم 450 سے زیادہ بسوں میں لگائے جائیں گے اور اس کام میں ذیلی نظاموں سے مطابقت پیدا کرنا اور انہیں اس جدید نظام کے ساتھ مربوط کرنا بھی شامل ہے، بشمول انٹر ایکٹو وائس رسپانس، ڈیٹا ریڈیو نیٹ ورک، ٹرمینلز اور اسٹیشنوں کے اسٹاپس پر 130 سے زیادہ الیکٹرانک سنگلز کی تنصیب اور بسوں کو آٹومیٹک پیسنجر کاؤنٹر کے ساتھ مربوط کرنا۔

ان نئے سسٹمز کے اضافے سے ڈیٹا پر بھروسہ مندی، آپریشنل ٹریکنگ، سسٹم کی گنجائش اور کارکردگی میں بہتری آئے گی، جس سے برامپٹن کو ایک بہتر معیار کے حامل اور محفوظ عوامی ٹرانزٹ سسٹم کی سہولت میسر آئے گی۔

لنکس

• [کینیڈا اور ٹورینٹو، برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے پبلک ٹرانزٹ میں بہتری لانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں](#)

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن اپنے پبلک ٹرانزٹ سسٹم میں اس نمایاں سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کا شمار کینیڈا میں تیز ترین ترقی کرنے والے ٹرانزٹ نیٹ ورکس میں ہوتا ہے اور مختلف روٹس پر گاڑیاں روانہ کرنے اور ان کی موجودگی کے مقامات کے جدید ترین نظام کی مدد سے برامپٹن کے نقل و حمل کے ذرائع میں حقیقی وقت کی معلومات کے حصول، رابطہ سازی، معیار اور حفاظت میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے، میں تمام حکومتی سطحوں پر مل کر کام کرنے کا متمنی ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک صحت بخش، محفوظ اور زیادہ بہتر طور پر چلایا جانے والا شہر ہے۔ اس اہم سرمایہ کاری کی وجہ سے ہمارا ٹرانزٹ سسٹم زیادہ ماڈرن، مؤثر اور بہت اچھے طریقے سے باہم مربوط ہو جائے گا۔ ہم یہ یقینی بنانے کا عمل جاری رکھیں گے کہ برامپٹن ٹرانزٹ کے پاس، اپنی کمیونٹی کے ہر شخص کے روزمرہ کے معمولات، حفاظت اور نشوونما میں معاونت کے لیے، جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہونی چاہیے۔ اس کام کو ممکن بنانے میں معاونت فراہم کرنے والے تمام حکومتی شراکت داروں، عملے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کا بہت شکریہ۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے لیے سٹی کا عملہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب ہم برامپٹن ٹرانزٹ میں ان ڈیوائسز اور سسٹمز کو تبدیل، نصب اور مربوط کر لیں گے، تو ہماری بسوں اور کمیونٹی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"آج کی اعلان کردہ سرمایہ کاری کی وجہ سے برامپٹن ٹرانزٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں بے حد مدد ملے گی اور اس کے ڈیٹا کی بھروسہ مندی، نظام کی نگرانی اور صلاحیتوں میں بے حد اضافہ ہو گا۔ اس سے یہ بات یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی کہ ہمارے رہائشیوں کو آنے والے وقتوں میں ٹرانزٹ کا ایک معیاری اور محفوظ نظام میسر آتا رہے گا۔ کینیڈا کے انفراسٹرکچر پلان کے ذریعے ہزاروں پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ زیادہ صاف اور وابستہ کمیونٹیوں کو فروغ دیتا ہے۔"

- محترمہ کیتھرین میک کینا، فیڈرل منسٹر فار انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے جناب میندر سدھو، پارلیمنٹری سیکریٹری برائے منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ممبر آف پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ

"تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ایک شہر کے طور پر، ہمارے لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں نقل و حرکت کے لیے برامپٹن میں ایک محفوظ، اسمارٹ اور قابل رسائی ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ کاری ہماری کمیونٹی کے لیے ایک جدید، مؤثر اور مفید ٹرانزٹ نظام کی تعمیر کو جاری رکھے گی — تاکہ برامپٹن کے محنتی خاندان آگے بڑھنے کے ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔"

- جناب پرامیٹ سنگھ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے سماجی برنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور برامپٹن ساؤتھ کے ممبر آف پرووینشل پارلیمنٹ، منجانب عزت مآب لوری اسکاٹ، اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

#### میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

چینٹیل ابرٹن

پریس سیکریٹری

آفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

613.941.0660 | [chantalle.aubertin@canada.ca](mailto:chantalle.aubertin@canada.ca)

کرستین بوجولڈ

پریس سیکریٹری

آفس آف دی آنر ایبل لوری اسکاٹ، اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

416.454.1782 | [christine.bujold@ontario.ca](mailto:christine.bujold@ontario.ca)

سوفیہ سوسہ ڈیاس

کمیونیکیشنز برانچ

اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

437.991.3391 | [sofia.sousa-Dias@ontario.ca](mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca)

میڈیا ریلیشنز

انفراسٹرکچر کینیڈا

613-960-9251

ٹول فری: 1.877.250.7154

ای میل: [infc.media@canada.ca](mailto:infc.media@canada.ca)

ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

ویب: [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca)